



سوال

(574) وٹہ سٹہ کی حیثیت

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین شغار کا نکاح یعنی وٹہ سٹہ کا نکاح جائز ہے یا نہیں اور جانہین سے مہر بھی مقرر کیا گیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

نکاح وٹہ سٹہ "نا جائز ہے چاہے درمیان میں مہر مقرر ہو یا نہ ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقرر مہر کے باوجود تفریق کرادی تھی۔ (صحیح البانی صحیح ابی داؤد کتاب النکاح باب فی الشغار (2074) و (2075) حسنہ البانی) ملاحظہ ہو۔ (سنن ابی داؤد)

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

[فتاویٰ شناسیہ مدنیہ](#)

ج 1 ص 851

محدث فتویٰ